



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2022/12/6

گورنر HOCHUL نے اہل ووٹوں کی گنتی کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی پر دستخط کر دیئے

مسودہ قانون (S.284C/A.642C) ایک ایسے اہل ووٹر کی جانب سے ڈالے گئے حلفیہ بیلٹ کو گنے جانے اور اس کی کنویسنگ کا متقاضی ہے جو غلط پولنگ کی جگہ پر چلا جاتا ہے، بشرطیکہ ووٹر صحیح کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں ہو۔

اہل ووٹروں کو ان کے پورے بیلٹس کو غیر ضروری طور پر مسترد ہونے سے بچاتا ہے

گورنر Kathy Hochul نے آج نیو یارک کے شہریوں کے حق رائے دہی کے تحفظ اور ووٹ ڈالنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازی پر دستخط کر دیئے ہیں۔ مسودہ قانون (S.284C/A.642C) ووٹ ڈالنے کی غلط جگہ پر جانے والے اہل ووٹروں کی جانب سے ڈالے گئے حلفیہ بیلٹ کو گنے جانے اور اس کی کنویسنگ کا متقاضی ہے، جب تک کہ وہ صحیح کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں ووٹ ڈال رہے ہوں۔ نیا قانون نیو یارک کے مکینوں کے حق رائے دہی کی حفاظتوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے ووٹ کی پرچی کو ان ووٹوں میں گنواتا ہے جن میں وہ ووٹ دینے کے حقدار ہیں جبکہ انتخابی عمل میں ووٹر کی شرکت کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

گورنر Hochul نے کہا، "بیلٹ باکس تک رسائی کو ووٹنگ کے پیچیدہ اور غیر واضح طریقہ کار سے روکا نہیں جانا چاہیے۔ نیو یارک ووٹ کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کرنے میں قوم کی رہنمائی کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ میری انتظامیہ ووٹروں کو باختیار بنانے اور ریاست کے اس انتخابی عمل کو بہتر بنانے کے لیے پُر عزم ہے، جس نے نیو یارک کے بہت سے مکینوں کو طویل عرصے سے حق رائے دہی سے محروم کر دیا ہے۔"

مسودہ قانون (S.284C/A.642C) ایک ایسے اہل ووٹر کی جانب سے ڈالے گئے حلفیہ ووٹوں کو گنے جانے اور اس کی کنویسنگ کرنے کا تقاضہ کرتے ہوئے نیویارک کے مکینوں کے ووٹ ڈالنے کے بنیادی حق کا تحفظ کرتا ہے اور انتخابی عمل میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو ووٹ ڈالنے کی غلط جگہ پر چلے گئے ہوں، تاوقتیکہ فرد صحیح کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں ووٹ ڈال رہا ہو۔ الیکشن کے دن ووٹر نادانستہ طور پر غلط پولنگ مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ان کے ووٹ ڈالنے کی جگہ کے مقام میں حالیہ تبدیلیاں کی گئی ہوں یا جب انہیں دیگر وجوہات کے علاوہ، ووٹ کیسے اور کہاں ڈالنا ہے کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئی ہوں۔ اس وقت، ایک ووٹر جو غلط جگہ پر ووٹ ڈال اتا ہے لیکن صحیح کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں ہی ہوتا ہے تو اس کا پورا ووٹ مسترد ہو جائے گا، بشمول ضلع بھر، ریاست بھر میں، اور وفاقی مقابلوں میں ان کے ووٹ جن میں تمام اہل ووٹرز کو حصہ لینے کی اجازت ہے۔ یہ نیا قانون ایسے بیلٹ کو گننے اور ان مقابلوں میں کنویس کرنے کی اجازت دے گا جن میں نیو یارک کے اہل ووٹر ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔

ریاستی سینیٹر Zellnor Myrie نے کہا، "گزشتہ چار برسوں میں، نیو یارک نے ووٹروں کے لیے رکاوٹوں کو کم کرنے اور ہماری جمہوریت میں ہر ایک کی آواز کو سننے کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسری ریاست سے زیادہ کام کیا ہے۔ یہ نیا قانون درست ووٹوں کی گنتی کی مزید وجوہات اور انہیں نااہل قرار دینے کی کم وجوہات تلاش کر کے اس پیشرفت پر استوار ہے۔ میں اس قانون پر دستخط کرنے کے لیے گورنر Hochul، رکن اسمبلی Bobby Carroll اور ان وکلاء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسودہ قانون کو حقیقت بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔"

رکن اسمبلی **Robert C. Carroll** نے کہا، "میں گورنر کی جانب سے **A.642-B/S.284-C** پر دستخط کرنے کے لیے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو میرا مسودہ قانون ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ درست کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں حلفیہ ووٹ ڈالنے والے تمام اہل ووٹروں کو مقابلے میں شمار کیا جائے جس کے لیے وہ ووٹ دینے کے حقدار ہیں، خواہ بیلٹ ووٹر کی تفویض کردہ ووٹ ڈالنے کی جگہ پر ڈالا جائے یا نہیں۔ ہماری جمہوریت کے حملے کی زد میں ہونے کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ نیو یارک اہل ووٹروں کے بیلٹ کی گنتی کو یقینی بنانے کے لیے جو کچھ بھی اس کے بس میں ہو وہ کرے۔ اس قانون سازی کے ساتھ، نیو یارک اب درست بیلٹ کو اس وجہ سے مسترد نہیں کرے گا کیونکہ ایک ووٹر اپنی آبائی کاؤنٹی اور اسمبلی کے ضلع میں غلط پولنگ جگہ پر چلا گیا تھا۔ ووٹنگ کی یہ اہم اصلاح اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ ہزاروں ووٹروں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔"

یہ عام فہم اقدام ریاست نیو یارک کے ووٹروں کو باختیار بنانے کے لیے گورنر **Hochul** کی کوششوں پر استوار ہے۔ جون میں، گورنر نے **تاریخی R. Lewis. John ووٹ ڈالنے کے حقوق کے ایکٹ** پر دستخط کیے تھے، جو نسلی، گروہی، اور لسانی اقلیتی گروہوں کے افراد کے لیے ووٹر کی حفاظتوں کو بڑھاتا ہے۔ گورنر نے غیر حاضر بیلٹ کی حفاظت کے لیے **قانون سازی** پر بھی دستخط کیے تھے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ووٹروں کا واضح ارادہ غیر مبہم ہونے تک نادانستہ نشانات یا تحریر کی وجہ سے بیلٹ کو مسترد نہیں کیا جائے گا۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418